

21698 - صرف مال جمع کرنے کے لئے کسی دوسرے کی جانب سے حج کرنے کا حکم کیا ہوگا ؟
 کس لئے؛ جانب سے حج کر کے پانچ سو روپے؛ سے حاصل کرنے کا حکم

سوال

جو شخص صرف مال جمع کرنے کے لئے کسی دوسرے کی جانب سے حج کرنے کے لئے اس کا حکم کیا ہوگا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

یہ سوال فضیلۃ الشیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا جواب تھا :

علماء کرام کا کہنا ہے کہ : جب کوئی انسان دنیا اور پیسے حاصل کرنے کے لئے حج کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا کی کوئی نیت کرے ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

جو بھی دنیا اور اس کا مال و متاع اور زینت حاصل کرنا چاہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا (بدلہ) پہنچا دیتے ہیں ، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں -

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

جو کوئی بھی (مال) حاصل کرنے کے لئے حج کرے تو آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا ، لیکن جب اس نے حج کرنے کے لئے اخراجات حاصل کیے یا پھر مال اس لئے لیا کہ وہ حج میں اس سے تعاون حاصل کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی حرج ہوگا -

اور یہاں انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ پہلی غرض کے لئے پیسے حاصل کرے ، کیونکہ خدشہ ہے کہ اس کا یہ عمل ہی قبول نہ ہو اور جس کی طرف سے حج کی ادائیگی کے لئے پیسے لیے ہیں اس کی طرف سے حج کی ہی ادائیگی نہ ہو ، اور جب ہم یہ کہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں اور دوسرے کی جانب سے ادا ہی نہیں ہوا تو اس وقت اسے اخراجات کی رقم لازمی واپس کرنا ہوگی -

لیکن انسان کو کسی دوسرے کی جانب سے حج کی ادائیگی کے لیے پیسے لینے چاہئیں تا کہ وہ حج میں ان سے مدد حاصل کر سکے اور اسے اپنی نیت میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی جانب سے حج کی ادائیگی کر رہا ہے اور مشاعر مقدسہ اور بیت اللہ میں عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے - انتھی .